

INOVA ملاقات سے متعلق رہنما ہدایات

مؤثر بمطابق 19 جولائی 2021

سبھی ملاقاتی

• لازمی طور پر COVID-19 کی علامات سے پاک ہوں۔

• ان کی عمر لازمی طور پر 16 سال یا اس سے زائد ہو۔

• بیماری پر قابو کے مراکز اور بچاؤ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) کی حالیہ رہنما ہدایات کی مطابقت میں، ٹیکہ

کاری کی حالت سے قطع نظر، صحت نگہداشت فیسلٹی میں ہر شخص کے لئے فیسلٹی میں موجود رہتے وقت ہمیشہ ایسا ماسک پہننا

لازمی ہے جس سے ان کا منہ اور ناک ڈھکی رہے۔

◦ اگر آپ ماسک ٹھیک سے نہیں پہن پاتے ہیں تو، آپ سے چلے جانے کو کہا جائے گا۔

◦ درج ذیل ماسک کسی بھی Inova مقام پر نہیں پہنے جا سکتے ہیں:

▪ پٹی کے طرز کے ماسک

▪ رومال

▪ ایسے ماسک جن میں ہوا جانے کا راستہ بنا ہو

• مشتبہ یا تصدیق شدہ COVID-19 میں مبتلا مریضوں کے لئے کسی ملاقاتی کی اجازت نہیں ہے، سوائے یہ کہ زندگی کے خاتمہ والی صورت حال ہو۔

اسپتال میں داخل مریض

• ملاقات کے اوقات صبح 9 بجے - شام 6:30 بجے روزانہ۔

◦ زندگی کے خاتمہ کے حالات، فعال زچگی والی مریض اور اہل کلیسا اس سے مستثنیٰ ہیں۔

• بالغ مریضوں کے ایک نامزد معاونت شخص (Designated Support Person (DSP))* کے علاوہ دو ملاقاتی ہو سکتے ہیں۔

• بچہ مریضوں کے بستر کے بغل میں 24/7 دو والدین/سرپرست ہو سکتے ہیں۔

◦ غیر ICU والے بچہ مریضوں کے دو اضافی ملاقاتی ہو سکتے ہیں، مگر صرف ملاقات کے اوقات میں۔

◦ PICU اور NICU مریضوں کے لئے اضافی ملاقاتیوں کی تعیین پر کیس کے اعتبار سے مختلف ہو گی۔

◦ اسپتال میں غیرداخل بچہ مریضوں کے ساتھ صرف والدین/سرپرست ہو سکتے ہیں۔

اسپتال میں غیرداخل مریض/ایمرجنسی روم (EMERGENCY ROOM (ER))

• اسپتال میں غیرداخل بالغ مریضوں کے پاس نامزد معاونت شخص (Designated Support Person (DSP))* کے علاوہ ایک ملاقاتی ہو سکتا ہے۔

• اسپتال میں غیرداخل بچہ مریضوں کے ساتھ صرف والدین/سرپرست ہو سکتے ہیں۔

رویہ جاتی صحت

• اسپتال میں داخل سبھی مریضوں کے لئے ورچوئل ملاقات اب بھی دستیاب ہے۔

• نوخیز کی ملاقات کا وقت شام 6 بجے - شام 6:30 بجے ایک والد/والدہ یا بااختیار نمائندہ کے لئے ہے۔

*تعریف پچھلے حصے پر دیکھیں۔

INOVA ملاقات سے متعلق رہنما ہدایات

نامزد معاونت شخص (DESIGNATED SUPPORT PERSON (DSP)) کی تعریف

اگر کسی مریض کو پہلے سے موجود معذوری کی ایسی دستاویزی طور پر مصدقہ تشخیص ہو جس میں کمیونٹی کے اندر جاری معاونت کی ضرورت ہو تو، وہ اپنے نامزد معاونت شخص (Designated Support Person (DSP)) کی جاری معاونت کی درخواست کر سکتا/سکتی ہے۔ DSP کی عمر لازمی طور پر 18 سال سے زائد ہو اور اسے معذوری سے متعلق مریض کی ضروریات کا علم ہو۔ ایک DSP کو متعینہ علاقہ میں مریض کے ساتھ 24/7 قیام کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، اور اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ صبح 6 بجے - رات 11 بجے کے بیچ عمارت میں داخل ہو/وہاں سے چلا جائے۔ DSP کی ذمہ داریوں کا اشتراک دو شخص تک کر سکتے ہیں؛ تاہم ایک دن میں صرف ایک ہی شخص کی اجازت ہے۔

پہلے سے موجود معذوری میں مبتلا ایسا شخص جو کمیونٹی کے کسی شخص کی جاری معاونت استعمال کرتا ہے وہ سبھی Inova مقامات اور علاج کے مراکز پر ایک DSP لا سکتا ہے۔